

میٹرو پولیٹن ٹرانزٹ اتھارٹی برائے بیرس کاؤنٹی، ٹیکساس صحت اور تحفظ کے اصول

میٹروپولیٹن ٹرانزٹ اتھارٹی برائے بیرس کاؤنٹی، ٹیکساس ("METRO") اپنے سواروں، ملازمین، ٹھیکیداروں، اور مہمانوں کی صحت اور تحفظ کو اہم گردانتی ہے اور انہیں ترجیح دیتی ہے۔ METRO نے حکام برائے صحت عامہ کی تجاویز کے مطابق مندرجہ ذیل اصول نافذ کیے ہیں، تاکہ اس کے نظام اور سہولیات تک رسائی حاصل کرنے والے تمام افراد کی صحتوں اور تحفظ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ اصول COVID-19 کی عالمی وباء کے دوران، حکام برائے صحت عامہ کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کی بنیاد پر صدر اور CEO کے تعین کے مطابق، ضرورت پڑنے پر کسی بھی دیگر وبائی مرض یا عوام کی صحت اور تحفظ کو لاحق خطرے کے پھیلاؤ کے دوران کارگر ثابت ہوں گے۔ اصولوں کی تعمیل میں ناکامی کا نتیجہ سروس اور ٹرانزٹ سسٹم تک رسائی سے انکار کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

METRO کے تمام ملازمین، ٹھیکیداروں، سواروں اور ملاقاتیوں پر METRO کی خدمات، سسٹم، اور حدود کے استعمال کے دوران یہ لازم ہے کہ:

- 1. طبی طور پر جس حد تک ممکن ہو سکے، چہرے کو اس طرح سے ڈھانپ کر رکھیں کہ منہ اور ناک ڈھک جائیں؛**
- 2. طبی طور پر جس حد تک ممکن ہو سکے، لوگوں کے مابین کم از کم چھ (6) فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سماجی فاصلہ قائم رکھیں، تاوقتیکہ یہ افراد اپنے خاندان کے قریبی لوگوں، گھریلو افراد، اور/یا کسی ذاتی نگہداشت کنندہ کے ساتھ موجود ہوں؛**
- 3. METRO کی کسی بھی سہولت یا عمارت میں داخلے سے قبل COVID-19 کی ممکنہ علامات کے لیے درجہ حرارت اور صحت کی اسکریننگ کروائیں اور اس میں مثبت نتیجہ حاصل کریں؛ اور**
- 4. اس وقت تک METRO کی سروسز، سسٹم اور حدود میں داخل نہ ہوں جب تک کہ کوئی شخص فی الوقت COVID-19، یا اس کی ممکنہ یا مشتبہ علامات سمیت کسی ایسے وبائی مرض کا شکار ہو جو عوام کی صحت کے لیے خطرناک ہو۔**